



## سوال

(823) ایامِ عدت میں شوہر کے گھر میں ہی رہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عدتِ وفات میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ اس گھر میں عدت گزارے یا اپنے شوہر کے گھر میں؟ اور کیا اسے اپنے عزیزوں اور دوسروں کے گھر میں منتقل ہو جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عورت کے لیے لازم ہے کہ اسی گھر میں رہے جس میں اس کی رہائش ہو۔ بالفرض اگر اسے وفات کی خبر اس کے عزیزوں کے گھر میں ملے تو اسے چاہئے کہ اپنی رہائش کے مکان میں لوٹ آئے۔ اور اس سے پہلے ہم وہ امور بیان کر چکے ہیں جو ان ایامِ عدت میں عورت کے لیے منع ہیں، اور یہ کہ (بلا ضرورت شدیدہ) گھر سے باہر نہ جائے۔

ہذا ما عنہم والی اللہ اعلم بالصواب

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 582

محدث فتویٰ